



ویمنز ایک روزہ سیریز: پاکستان نے بنگلہ دیش کو پہلے میچ میں 29 رنز سے شکست دے دی

- اوپنر ناہیدہ خان کی نصف سنچری نے فتح میں کلیدی کردار ادا کیا
- ثناء میر نے 3 وکٹیں حاصل کیں

لاہور، 2 نومبر 2019ء:

قومی ویمنز کرکٹ ٹیم نے پہلے ایک روزہ میچ میں بنگلہ دیش کو 29 رنز سے شکست دے دی۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے اوپنر ناہیدہ خان کی نصف سنچری کی بدولت 215 رنز بنائے۔ جواب میں بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 48 ویں اوور میں 186 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔

اس سے قبل قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کی کپتان بسمعہ معروف نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو ناہیدہ خان اور سدرہ امین پر مشتمل اوپننگ جوڑی نے میزبان ٹیم کو 59 رنز کا آغاز فراہم کیا۔ جویریہ خان کے جلد آؤٹ ہونے کے بعد ناہیدہ خان اور کپتان بسمعہ معروف کے درمیان 69 رنز کی شراکت نے میچ میں پاکستان کی پوزیشن مستحکم کر دی۔ ناہیدہ خان 68 رنز بنا کر آؤٹ ہوئیں۔ ان کی اننگز میں 7 چوکے شامل تھے۔ بسمعہ معروف 39 اور عالیہ ریاض 37 رنز بنا کر نمایاں بیٹرز رہیں۔ قومی خواتین کرکٹ ٹیم 48.5 اوورز میں 215 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ مہمان ٹیم کی جانب سے جہاں آراء عالم نے 3 جبکہ پنا گوش اور ناہیدہ اختر نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔

216 رنز کے تعاقب میں مہمان ٹیم کی ابتدائی 2 وکٹیں محض 9 رنز پر گر گئیں، جس کے بعد بنگلہ دیش ویمنز کرکٹ ٹیم سنبھل نہ سکی اور پوری ٹیم 47.4 اوورز میں 186 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ مہمان ٹیم کی جانب سے وکٹ کیپر بیٹر نگار سلطانہ نے محتاط کھیل کا مظاہرہ کیا تاہم وہ بھی 58 رنز پر ہمت ہار گئیں۔ قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی جانب سے ثناء میر نے 49 رنز کے عوض 3 کھلاڑیوں کو پولین کی راہ دکھائی۔ نشرہ سندھو، سعدیہ اقبال اور ڈیانا بیگ نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔

قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی اوپنرناہیدہ خان کومیچ میں نصف سنچری اسکور کرنے پر پلیئر آف دی میچ کا انعام دیا گیا۔

سعدیہ اقبال نے پاکستان کی جانب سے ڈیبیو کیا۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk